

# 177 انگلش بولنے کے لیے اہم فقرات



- Don't argue بحث نہیں کرو۔
- Try it on. چیک کر کے دیکھو۔
- It is mine. یہ میرا ہے۔
- Get me out. مجھے باہر نکالو۔
- Take me with you. مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔
- Is it really you? کیا واقعی یہ تم ہو۔
- Keep the beard. داڑھی رکھ لیں۔
- It's indelible . یہ ناقابل فراموش ہے۔
- He is credulous. وہ سیدھا سادھا ہے۔
- Listen to what I say. جو میں کہتا ہوں سنو۔
- I am unknown to you. میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔
- Reveal the secret. راز بتادیں۔
- What does it mean? اسکا کیا مطلب ہے؟
- Don't argue بحث نہیں کرو۔
- Try it on. چیک کر کے دیکھو۔
- It is mine. یہ میرا ہے۔
- Get me out. مجھے باہر نکالو۔
- Take me with you. مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔
- Is it really you? کیا واقعی یہ تم ہو۔
- Keep the beard. داڑھی رکھ لیں۔
- It's indelible . یہ ناقابل فراموش ہے۔
- He is credulous. وہ سیدھا سادھا ہے۔
- Listen to what I say. جو میں کہتا ہوں سنو۔
- I am unknown to you. میں آپ کے لیے اجنبی ہوں۔
- Reveal the secret. راز بتادیں۔
- What does it mean? اسکا کیا مطلب ہے؟
- There is a reason. ایک وجہ ہے۔
- Just move on. آگے بڑھو۔
- Don't explain to me مجھے نہیں سمجھاؤ۔
- Don't get close to me. میرے قریب نہیں آؤ۔
- He is very keen. وہ بہت چالاک ہے۔

# 177 انگلش بولنے کے لیے اہم فقرات



- Don't you have any respect? کیا آپکی کوئی عزت نہیں
- Use your wits. اپنی عقل استعمال کریں۔
- I need your sympathy. مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت ہے
- He is a spendthrift. وہ فضول خرچ ہے۔
- What to do now? اب کیا کیا جائے؟
- Is it funny? کیا یہ مضحکہ خیز ہے؟
- How to solve it? اسے کیسے حل کیا جائے؟
- I cannot take risks. میں رسک نہیں لے سکتا۔
- Give me something. مجھے کچھ دو۔
- What is more compulsory? زیادہ ضروری کیا ہے؟
- It's merely a rumor. یہ محض ایک افواہ ہے۔
- Be sensible. سمجھدار بنیں۔
- It's only a talk. یہ صرف ایک بات ہے۔
- Feel free to speak. بلا جھجک بات کریں۔
- Stop cracking jokes. لطیفے توڑنا بند کریں۔
- Take it lightly. اسے ہلکے سے لیں۔
- Hold it tightly. اسے مضبوطی سے پکڑو۔
- Keep thinking about it. اس کے بارے میں سوچتے رہیں۔
- I need some time. مجھے کچھ وقت چاہیے۔
- You are like me. تم بھی میری طرح ہو۔
- it is on you now. یہ اب آپ پر ہے
- I want right now. میں ابھی چاہتا ہوں۔
- Something is wrong. کچھ گڑبڑ ہے۔
- He is sitting next to me. وہ میرے پاس بیٹھا ہے۔
- Take my words seriously. میری باتوں کو سنجیدگی سے لیں
- I'm in a bad state. میری حالت بری ہے۔
- How about the taste? اور ذائقہ کیسا ہے؟
- How did you do it? آپ نے یہ کیسے کیا؟
- I am sick of it. تنگ آ گیا ہوں میں اس سے۔
- Ask him anything. اس سے کچھ بھی پوچھیں۔
- Don't spoil the mood. موڈ خراب نہ کریں۔



# 177 انگلش بولنے کے لیے اہم فقرات

- I know what's that. میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔
- She tried to tell you. اس نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔
- Who stole my money? میرے پیسے کس نے چوری کیے؟
- I feel shame. مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔
- Are you in your senses? ہوش میں تو ہو تم؟
- I'm sweating. مجھے پسینہ آ رہا ہے۔
- He is looking at me. وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔
- It is hard to please you. آپ کو خوش کرنا مشکل ہے۔
- He married for money. اس نے پیسوں کے لیے شادی کی۔
- I'm delivering the lecture. میں لیکچر دے رہا ہوں۔
- Go from here. جاؤ یہاں سے۔
- No more discussion, please. براہ کرم مزید بحث نہ کریں۔
- Think once سوچ لو ایک بار۔
- Who provoked you کس نے اکسایا؟
- What do I understand then? کیا سمجھوں پھر میں؟
- That's what I wanted یہی تو چاہیے تھا مجھے۔
- I agree to this . میں اس سے اتفاق کرتا ہوں
- Is it true? کیا یہ سچ ہے؟
- I'm asking you something. کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے
- Told him many a times. کافی دفعہ بتایا اسے۔
- It shouldn't be done. ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
- He is a late riser. وہ دیر سے اٹھتا ہے۔
- I am an early riser. میں جلدی اٹھتا ہوں۔
- Get benefit of it. اس سے فائدہ اٹھاؤ۔
- Leave it to me یہ مجھ پر چھوڑ دو
- I'm blushing. میں شرم مار رہا ہوں۔
- You are making me fight him. تم اس سے مجھے لڑوا رہے ہو۔
- Put the clothes in the shelf. کپڑے الماری میں رکھ دیں۔
- The shop is nearby. دوکان پاس ہی ہے۔
- what to say now? اب کیا کہوں؟
- Yes what should I do? ہاں تو میں کیا کروں؟
- Who is with you? تمہارے ساتھ کون ہے؟



# 177 انگلش بولنے کے لیے اہم فقرات

- Don't say such a thing. ایسی بات مت بولو۔
- I still have no idea. ابھی ابھی مجھے نہیں پتا۔
- What actually happened? اصل میں کیا ہوا تھا؟
- The fridge isn't making ice. فریج برف نہیں بنا رہی ہے۔
- Be lenient with him. اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔
- I'll do it myself. میں خود کروں گا۔
- What are you talking? تم کیا بول رہے ہوں؟
- Please, oil my hair. پلیز، بالوں کو تیل لگا دیں۔
- This maybe true. یہ سچ ہو سکتا ہے۔
- Ok. I quit. ٹھیک ہے۔ میں نے چھوڑ دیا
- Do you remember my name? کیا آپ کو میرا نام یاد ہے؟
- Stop thinking about her. اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔
- No more fluke, please. پلیز، مزید تنگے نہیں۔
- He did it alone. اس نے اکیلے کیا۔
- Is it really difficult? کیا یہ واقعی مشکل ہے؟
- Don't panic. گھبرائیں نہیں۔
- My stomach is growling. میرا پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے۔
- Make the bed. بستر ٹھیک کرنا۔
- Turn the fan up. پنکھا تیز کر دو۔
- Do you know him? تم اسے جانتے ہو؟
- I need to leave now. مجھے ابھی جانا ہے۔
- Do you have the courage? کیا آپ میں ہمت ہے؟
- Who pushed you? آپ کو کس نے دھکا دیا؟
- Don't get into this . اس میں مت آنا۔
- It's troublesome. یہ پریشان کن ہے۔
- No need to tell me. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں
- Someone is calling you. کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔
- He has no one. اس کا کوئی نہیں ہے۔
- She saves money. وہ پیسے بچاتا ہے۔
- What time will you come? آپ کس وقت آئیں گے؟
- I had a busy day. دن کافی مصروف تھا۔



# 177 انگلش بولنے کے لیے اہم فقرات

- Comb your hair. اپنے بال کنگھی کرو۔
- I must leave now. مجھے ابھی جانا ہے۔
- She is badly hurt. وہ بری طرح زخمی ہے۔
- Not even a sip. ایک گھونٹ بھی نہیں۔
- This is just a mindset. یہ صرف ایک سوچ ہے۔
- Throw the garbage. کچرا پھینک دو۔
- He is hanging clothes. وہ کپڑے لٹکا رہا ہے۔
- What are you peeping at? آپ کدھر جھانک رہے ہیں؟
- You were true to your words. آپ نے جو کہا وہ کیا۔
- Anything you like. کچھ بھی جو آپ کو پسند ہو۔
- It's a tiring job. یہ اکتانے والا کام ہے
- Don't prattle. بکواس نہیں کرو۔
- Bask in the sun. دھوپ سیک لیں۔
- You are not reliable. تمہارا کوئی بھروسہ نہیں۔
- You will get drenched. آپ بھیگ جائیں گے۔
- This is always the case. ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔
- So, that's the matter. اچھا تو یہ بات ہے۔
- That's all for now. ابھی کے لیے بس اتنا ہے۔
- Is it your fault? کیا یہ تمہارا قصور ہے؟
- Only he knows. بس وہی جانتا ہے
- Do it and see. کر کے تو دیکھو
- Please, don't do that. ایسا مت کرو، پلیز۔
- Don't make excuses. بہانے مت بناؤ۔
- This suit is too tight. یہ سوٹ کافی تنگ ہے
- What did I do? میں نے کیا کر دیا؟
- Please him. اسے راضی کرو۔
- It had to happen. یہ تو ہونا ہی تھا۔
- At least, try . کوشش تو کرو۔
- What's going on your mind? تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟
- The matter is resolved. معاملہ حل ہو گیا ہے۔
- Don't do hurry. جلدی نہیں کرو۔



# 177 انگلش بولنے کے لیے اہم فقرات

- Don't look at him. اسے مت دیکھو۔
- Don't blush. شرماؤ نہیں۔
- Please, move aside. پلیز، ایک طرف ہو جاؤ۔
- Don't block his way. اس کا راستہ مت روکو۔
- Why re you going there? آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟
- It's really not like that. واقعی ایسی بات نہیں ہے۔
- Reconsider your decision. اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچ لو۔
- Did you take anything? کیا آپ نے کچھ لیا؟
- Whose turn is it now? اب کس کی باری ہے؟
- Who came with you? آپ کے ساتھ کون آیا؟
- Is anyone there? کیا کوئی ہے وہاں؟
- When did you come? تم کب آئے؟
- He looks like you. وہ آپ کی طرح لگتا ہے۔
- She is my age. وہ میری ہم عمر ہے۔
- I did not say that. ایسا تو نہیں کہا میں نے۔
- Chop the vegetable. سبزی کاٹ لیں۔
- Everything went wrong. سب غلط ہو گیا۔
- Things are quite okay now. حالات اب ٹھیک ہیں۔
- Is there anything special? کیا کچھ خاص ہے؟
- Don't take out your anger on me اپنا غصہ مجھ پر نہیں اتارو۔
- I got stuck there. میں وہاں پھنس گیا تھا۔
- Let's be in touch. چلو رابطے میں رہتے ہیں۔
- At least, you could tell me. آخر تم مجھے بتاؤ سکتے تھے۔
- He may be in bad mood. شاید اس کا موڈ ٹھیک نہیں۔
- I bet on it. میں شرط لگاتا ہوں اس پر۔
- What it feels like now? اب یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟
- Don't say it repeatedly. یہ بار بار نہیں کہو۔
- His talks are meaningless. اس کی باتیں بے معنی ہیں۔
- She needs a bit care. اسے تھوڑی سی پرواہ چاہیے۔
- Keep standing still. سیدھا کھڑے رہو۔
- I have a word to say. مجھے کچھ کہنا ہے۔